

## خدا کی بادشاہت سے خارج گناہوں اور گنہگاروں کا تفصیلی تجزیہ اور ارتداد میں ان کا کردار

یہ دستاویز ارتداد پر جامع مطالعہ کے سیکشن 10 وہ لوگ جو بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے اور سیکشن 8 اور 1 کرتھیوں 5 اور میتھیوں 16 اور 15 کی بصیرت میں درج گنہگاروں کے گناہوں اور زمروں کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ گناہ اور گنہگار، جن کی صحیفہ میں نشاندہی کی گئی ہے، ان رویوں اور روحانی حالات سے منسلک ہیں جو خدا کی بادشاہی سے خارج ہونے کا باعث بنتے ہیں اور گرنے اور ارتداد میں حصہ ڈالتے ہیں۔ ہر گناہ کا تجزیہ اصل یونانی نیا عہد نامہ اور عبرانی پرانا عہد نامہ، جہاں متعلقہ اصطلاحات کو استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے تاکہ ان کے معنی کو واضح کیا جا سکے، تمام آیات کی تصدیق ان کے بائبل کے تناظر میں انگریزی معیاری ورژن کے ذریعے کی جاتی ہے۔ تجزیہ ہر گناہ کی نوعیت، ارتداد سے اس کا تعلق، اور روحانی قوتوں مثلاً غلطی کی روح کو دریافت کرتا ہے جو اس طرح کے رویوں پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، ان گناہوں کو روکنے میں روح حق کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔

### 1. تعارف

بائبل متنبہ کرتی ہے کہ بعض گناہ اور توبہ نہ کرنے والے گنہگار خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے، جو بغاوت یا غفلت کی حالت کو ظاہر کرتا ہے جو ارتداد کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے خدا پر ایمان سے منہ موڑنا۔ اصل دستاویز کا سیکشن 10 مکاشفہ 21:8، میتھیوں 23 اور 7:21، 1 کرتھیوں 10 اور 6:9، اور گلٹیوں 21 اور 5:19 کا حوالہ دیتا ہے، مخصوص گناہوں اور گنہگاروں کے زمروں کی فہرست جو بادشاہی سے خارج ہیں۔ سیکشن 8 کرتھیوں 5 اور میتھیوں 16 اور 15 سے اخذ کرتا ہے، جنسی بے حیائی، لالچ، اور منافقت جیسے گناہوں کو نمایاں کرتا ہے، جو کلیسیا کو خراب کرتے ہیں اور ارتداد کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ دستاویز ان گناہوں اور گنہگاروں کا تفصیلی جائزہ فراہم کرتی ہے، ان کے معنی اور روحانی زوال میں ان کے کردار کو کھولنے کے لیے اصل زبان کی اصطلاحات کا استعمال کرتی ہے۔ یہ تجزیہ روح حق کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے، جو اطاعت اور استقامت کو فروغ دیتا ہے، اور غلطی کی روح، جو دھوکہ دہی اور بغاوت کو فروغ دیتا ہے، جس سے ارتداد کا باعث بنتا ہے۔

### 2. دفعہ 10 سے گناہ اور گناہ گار: وہ لوگ جو مملکت میں داخل نہیں ہوں گے۔

مکاشفہ 21:8

متن: بزدل، ایمان، قابل نفرت، جیسا کہ قاتل، بد اخلاق، جادوگر، بت پرست اور تمام جھوٹے، ان کا حصہ اس جھیل میں ہوگا جو آگ اور گندھک سے جلتی ہے۔  
تجزیہ:

بزدل، ایمان، قابل نفرت، جیسا کہ قاتل، بد اخلاق، جادوگر، بت پرست اور تمام جھوٹے، ان کا حصہ اس جھیل میں ہوگا جو آگ اور گندھک سے جلتی ہے۔

یونانی معنی: ڈیلوس سے، جس کا مطلب ہے خوف زدہ یا، ڈرپوک آزمائشوں میں ہمت یا ایمان کی کمی کا مطلب۔ مکاشفہ 21:8 میں، یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ایذا رسانی یا مصائب کے خوف سے ایمان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، عبرانیوں 39 اور 10:38 کے مطابق: میرا راستباز ایمان سے زندہ رہے گا، اور اگر وہ پیچھے ہٹ جائے تو میری روح کو اُس سے کوئی خوشی نہیں ہوگی۔

ارتداد سے تعلق: بزدلی ثابت قدم رہنے میں ناکامی کی عکاسی کرتی ہے، ارتداد کی ایک خصوصیت عبرانیوں 3:12۔ غلطی کی روح خوف کا استحصال کرتی ہے، جو ایمان کو ترک کرنے کا باعث بنتی ہے مرقس 4:17، جبکہ سچائی کی روح دلیری کو تقویت دیتی ہے 2 تیمتھیس 1:7۔

بے وفا، ایمان، قابل نفرت، جیسا کہ قاتل، بد اخلاق، جادوگر، بت پرست اور تمام جھوٹے، ان کا حصہ اس جھیل میں ہوگا جو آگ اور گندھک سے جلتی ہے۔

یونانی معنی: **اعتقاد** سے، جس کا مطلب ہے **اعتقاد** یا **وفا**، ان لوگوں کی نشاندہی کرنا جو خدا کو مسترد کرتے ہیں یا اس پر ایمان کی کمی رکھتے ہیں۔ یہ جیمز 2:19 میں بیسٹس **ایمان** سے متصادم ہے، جہاں شیاطین یقین رکھتے ہیں **بیسٹس** لیکن بجانے والے ایمان کی کمی ہے۔

ارتداد سے تعلق: بے ایمان مسیح پر بھروسہ ترک کر دیتے ہیں، جو ارتداد کی علامت ہے **لوقا 8:13**۔ غلطی کی روح اعتقاد کو پروان چڑھاتی ہے **1 تیمتھیس 4:1**، جب کہ سچائی کی روح ایمان کو اینکر کرتی ہے **1 یوحنا 4:2**۔

قابل نفرت، **نفرت**: **قابل نفرت** یا **قابل نفرت**۔

یونانی معنی: **قابل نفرت** سے، جس کا مطلب ہے **قابل نفرت** یا **قابل نفرت**۔ **نفرت** یا **اخلاقی** یا **روحانی ناپاکی** سے جڑا ہوا ہے **مثال کے طور پر**، **18:22** میں **بت پرستی**، **عبرانی**۔ **مکاشفہ 21:8** میں، یہ ان لوگوں کو بیان کرتا ہے جو سنگین گناہ سے ناپاک ہوتے ہیں۔

ارتداد سے تعلق: مکروہ رویہ خدا کی طرف سے پھیرے ہوئے دل کی عکاسی کرتا ہے، جو اسرائیل کی بت پرستی کے مترادف ہے **میشواہ**، **یرمیاہ 3:6**۔ غلطی کی روح ایسی ناپاکی کو فروغ دیتی ہے **یہوداہ 1:4**، جبکہ سچائی کی روح پاک کرتی ہے **افسیوں 5:26**۔

قاتل، **قاتل**: **قاتل** یا **قاتل**۔

یونانی معنی: **فونس** سے، جس کا مطلب ہے **قاتل** یا **قاتل** یا وہ جو ناحق قتل کرتا ہے، **نفرت** یا **بغض** کی جڑ ہے **1 جان 3:15**۔ **بر** کوئی جو اپنے بھائی سے **نفرت** کرتا ہے وہ **قاتل** ہے۔

ارتداد سے تعلق: **قتل محبت کے خُدا کے حکم کو مسترد کرنے کی عکاسی کرتا ہے** **یوحنا 13:34**، **ارتداد کی لاقانونیت کے ساتھ موافقت کرتا ہے** **متی 24:12**۔ غلطی کی روح **نفرت کو بھڑکاتی ہے** **گلتیوں 5:20**، جبکہ سچائی کی روح **محبت کو فروغ دیتی ہے** **گلتیوں 5:22**۔

جنسی طور پر غیر اخلاقی، **جنسی طور پر غیر اخلاقی**۔

یونانی معنی: **پورنو** سے، **مطلب وہ جو جنسی بے حیائی میں ملوث ہو، بشمول زنا، زنا، یا دیگر ناجائز جنسی اعمال**۔ اس میں **جنسیت کے لیے خدا کے ڈیزائن کی خلاف ورزی کرنے والے رویے شامل ہیں** **1 کرنتھیوں 6:18**۔

ارتداد سے تعلق: **جنسی بے حیائی دنیاوی خواہشات سے متاثر دل کی عکاسی کرتی ہے** **1 یوحنا 2:16**، **ارتداد کی طرف لے جاتی ہے** **1 کرنتھیوں 5:11**۔ غلطی کی روح **جنسیت کو فروغ دیتی ہے** **یہوداہ 1:4**، جبکہ سچائی کی روح **پاکیزگی کا مطالبہ کرتی ہے** **1 تھیسالونیکیوں 4:3**۔

جادوگر، **جادوگر**: **جادوگر** یا **جادوگر**۔

یونانی معنی: **فارماکوس** سے، یعنی وہ جو **جادو، جادو ٹونے، یا جادوئی مقاصد کے لیے منشیات کا استعمال کرتا ہے**، جو **اکثر بت پرستی اور شیطانی اثر سے منسلک ہوتا ہے**۔ **عبرانی** **12** **18:10**، **عبرانی**۔

ارتداد سے تعلق: **جادو میں شیطانی طاقتوں کی طرف رجوع کرنا شامل ہے**، **بت پرستی کی ایک شکل جو ارتداد کی طرف لے جاتی ہے** **1 تیمتھیس 4:1**۔ غلطی کی روح **اس طرح کے طریقوں کو چلاتی ہے**، جبکہ سچائی کی روح **سچی عبادت کی رہنمائی کرتی ہے** **یوحنا 4:24**۔

بت پرست، **بت پرست**: **بت پرست** یا **بت پرست**۔

یونانی معنی: **بت پرست** سے، جس کا مطلب ہے **بتوں کی پوجا کرنے والا**، **خدا کے اوپر کسی بھی چیز کے لیے عقیدت کا احاطہ کرتا ہے**۔ **عبرانی** **3:5**، **جہاں لالچ کو بت پرستی کہا جاتا ہے**۔

ارتداد سے تعلق: **بت پرستی اسرائیل کے میشواہ** **یرمیاہ 3:6** کی **آئینہ دار ہے**، **خدا سے جھوٹے معبودوں کی طرف رجوع، ارتداد کی بنیادی وجہ**۔ غلطی کی روح **بت پرستی کو ہوا دیتی ہے** **1 یوحنا 5:21**، جب کہ سچائی کی روح **مسیح کی عبادت کی ہدایت کرتی ہے** **یوحنا 16:14**۔

جھوٹے، **جھوٹے**: **جھوٹے** یا **جھوٹے**۔

یونانی معنی: سے، جس کا مطلب ہے جھوٹا یا دھوکہ باز، جو عادتاً جھوٹ بولتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں۔ 8:44، جہاں شیطان جھوٹ کا باپ ہے۔  
 ارتداد سے تعلق: جھوٹ سچائی کو مسترد کرنے کی عکاسی کرتا ہے، غلطی کی روح 1 جان 4:6 اور ارتداد کی طرف لے جاتا ہے 2 تھیسالونیکیوں 2:3۔ سچائی کی روح ایمانداری کو برقرار رکھتی ہے افسیوں 4:25۔  
 میتھیو 23:7

متن: ہر کوئی جو مجھ سے کہتا ہے، 39 خداوند، خداوند، 39 آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو میرے باپ کی مرضی پر چلتا ہے... اور پھر میں اُن سے اعلان کروں گا، 39 میں تمہیں کبھی نہیں جانتا تھا؛ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، اے لاقانونیت کے کام کرنے والے 39۔  
 تجزیہ:

لاقانونیت کے کارکن، ان لوگوں کی وضاحت کرتا ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نافرمانی میں رہتے ہیں، منافقت یا جھوٹی تعلیم سے نشان زد ہیں۔  
 یونانی معنی: کام کرنے کے لئے اور لاقانونیت، خدا کے قانون کی خلاف ورزی سے، یہ ان لوگوں کی وضاحت کرتا ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نافرمانی میں رہتے ہیں، منافقت یا جھوٹی تعلیم سے نشان زد ہیں۔ 15:8  
 ارتداد سے تعلق: لاقانونیت خدا کی مرضی کے رد کی عکاسی کرتی ہے، ارتداد کی بغاوت کے مترادف ہے ارتداد، 2 تھیسالونیکیوں 2:3۔ غلطی کی روح لاقانونیت کو فروغ دیتی ہے یہوداہ 1:4، جبکہ سچائی کی روح فرمانبرداری کے قابل بناتی ہے یوحنا 16:13۔  
 1 کرنتھیوں 10:9

متن: نہ جنس پرست، نہ بت پرست، نہ زانی، نہ مرد جو ہم جنس پرستی کرتے ہیں، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالی دینے والے، نہ دھوکہ باز خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔  
 تجزیہ:

جنسی طور پر غیر اخلاقی، اوپر مکاشفہ 21:8 دیکھیں۔  
 بت پرست، اوپر مکاشفہ 21:8 دیکھیں۔  
 زنا کرنے والے،  
 یونانی معنی: سے، جس کا مطلب ہے وہ جو زنا کرتا ہے، شادی کے عہد کی خلاف ورزی کرتا ہے۔  
 20:14، عبرانی۔  
 ارتداد سے تعلق: زنا بے وفائی کی عکاسی کرتا ہے، خدا کے ساتھ روحانی بے وفائی کی عکاسی کرتا ہے۔  
 غلطی کی روح بوس کو پروان چڑھاتی ہے 1 یوحنا 2:16، جبکہ سچائی کی روح وفاداری کو فروغ دیتی ہے عبرانیوں 13:4۔

ہم جنس پرستی پر عمل کرنے والے مرد،  
 یونانی معنی: سے، جس کا مطلب ہے وہ مرد ہیں جو ہم جنس کے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو غیر فعال کردار ادا کرتے ہیں یا عافیت میں رہتے ہیں، دونوں کو خدا کے ڈیزائن کی خلاف ورزی قرار دیا جاتا ہے۔  
 ارتداد سے تعلق: اس طرح کے عمل خدا کے حکم کے خلاف بغاوت کی عکاسی کرتے ہیں، ارتداد کی سچائی کو مسترد کرنے کے ساتھ موافقت کرتے ہیں رومیوں 1:26۔ غلطی کی روح جنسیت کو فروغ دیتی ہے یہوداہ 1:4، جبکہ سچائی کی روح پاکیزگی کا مطالبہ کرتی ہے 1 کرنتھیوں 6:11۔  
 چور،

یونانی معنی:  $\square\square\square\square\square\square$  سے، یعنی وہ جو چوری کرتا ہے، خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے  $\square$  خروج 20:15، عبرانی گاناو  $\square$ ۔

ارتداد سے تعلق: چوری لالچ اور خُدا کے رزق کی بے توقیری کی عکاسی کرتی ہے، جس سے ارتداد ہوتا ہے  $\square$  ڈیماس، 2 تیمتھیس 4:10۔ غلطی کی روح لالچ کو ہوا دیتی ہے  $\square$  کلوسیوں 3:5، جبکہ سچائی کی روح قناعت کو فروغ دیتی ہے  $\square$  فلپیوں 4:11۔

لالچی،  $\square\square\square\square\square\square\square\square$ :  $\square\square\square\square\square\square\square\square$

یونانی معنی:  $\square\square\square\square\square\square\square\square$  سے، جس کا مطلب ہے وہ جو زیادہ کی خواہش رکھتا ہے، اکثر دوسروں کے خرچ پر، بت پرستی کے مترادف  $\square$  کلوسیوں 3:5۔

ارتداد سے تعلق: لالچ دنیا کے لیے محبت کو آگے بڑھاتا ہے  $\square$  1 یوحنا 2:15، ارتداد کی طرف لے جاتا ہے  $\square$  یہودا، میتھیو 26:15۔ غلطی کی روح مادیت کو فروغ دیتی ہے، جبکہ سچائی کی روح سخاوت کی حوصلہ افزائی کرتی ہے  $\square$  2 کرنتھیوں 9:7۔

شرابی،  $\square\square\square\square\square\square$ :  $\square\square\square\square\square\square$

یونانی معنی: میتھوسس سے، جس کا مطلب ہے وہ جو عادتاً نشہ میں ہے، خود پر قابو کھو رہا ہے  $\square$  سی ایف۔ امثال 23:20  $\square$  21۔

ارتداد سے تعلق: شرابی خودداری کی کمی کو ظاہر کرتا ہے، جو کسی کو دھوکے اور ارتداد کا شکار بناتا ہے  $\square$  1 تیمتھیس 4:1۔ غلطی کی روح عیش و عشرت کا استحصال کرتی ہے، جب کہ سچائی کی روح ضبط نفس کو فروغ دیتی ہے  $\square$  گلتیوں 5:23۔

گالی دینے والے،  $\square\square\square\square\square\square$ :  $\square\square\square\square\square\square$

یونانی معنی:  $\square\square\square\square\square\square$  سے، جس کا مطلب ہے وہ جو دوسروں کی غیبت کرتا ہے یا زبانی طور پر گالی دیتا ہے، جس کی جڑ بغض میں ہے  $\square\square$  زبور 101:5، عبرانی زبان میں غیبت کے لیے  $\square$ ۔

ارتداد سے تعلق: گالی دینا خدا کی محبت سے دور دل کی عکاسی کرتا ہے، ارتداد کی لاقانونیت سے ہم آہنگ ہوتا ہے  $\square$  متی 24:12۔ غلطی کی روح تفرقہ کو بھڑکاتی ہے  $\square$  گلتیوں 5:20، جبکہ سچائی کی روح امن کو فروغ دیتی ہے  $\square$  گلتیوں 5:22۔

دھوکہ باز،  $\square\square\square\square\square\square$ :  $\square\square\square\square\square\square$

یونانی معنی: ہارپیکس سے، جس کا مطلب ہے لوٹ مار کرنے والا یا لوٹنے والا، اکثر دھوکہ دہی یا تشدد کے ذریعے۔

ارتداد سے تعلق: دھوکہ بازی لالچ اور بے ایمانی کی عکاسی کرتی ہے، جس سے ارتداد ہوتا ہے  $\square$  2 پیٹر 2:3۔ غلطی کی روح استحصال کو فروغ دیتی ہے، جبکہ سچائی کی روح سالمیت کو برقرار رکھتی ہے  $\square$  افسیوں 4:28۔

گلتیوں 21  $\square$  5:19

متن: اب  $\square\square\square\square$  جسم کے کام عیاں ہیں: جنسی بے حیائی، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادو ٹونے، دشمنی، جھگڑے، حسد، غصہ، رقابت، جھگڑے، تفرقہ بازی، حسد، شرابی، بدمعاشی، اور ایسی چیزیں جو خدا کی مرضی نہیں ہے  $\square\square\square\square$ ۔

تجزیہ:

جنسی بے حیائی،  $\square\square\square\square\square\square$ :  $\square\square\square\square\square\square$  فحش سے زیادہ وسیع، تمام غیر قانونی جنسی اعمال کو شامل کرتا ہے۔ مکاشفہ 21:8 دیکھیں۔

ناپاکی،  $\square\square\square\square\square\square$ :  $\square\square\square\square\square\square$

یونانی معنی:  $\square\square\square\square\square\square$  سے، جس کا مطلب ہے  $\square\square\square\square$ ، ناپاکی  $\square\square\square\square$  اخلاقی یا روحانی طور پر، اکثر ہوس یا بت پرستی سے جڑا ہوا ہے  $\square\square$  رومیوں 1:24۔



- ارتداد سے تعلق: اختلافات چرچ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، ارتداد کو فروغ دیتے ہیں [یہوداہ 1:19]۔ غلطی کی روح تقسیم کا بیج ہوتی ہے، جبکہ سچائی کی روح متحد کرتی ہے [1 کرنتھیوں 12:25]۔
- تقسیم، [ ]: [ ]
- یونانی معنی: تفرقہ انگیز تعلیمات یا گروہوں کا حوالہ دیتے ہوئے [ ] دھڑے [ ] یا [ ] بدعت [ ] کا مطلب ہے [ ] 2 پیٹر 2:1]۔
- ارتداد سے تعلق: تقسیم جھوٹی تعلیم کی عکاسی کرتی ہے، جو ارتداد کی طرف لے جاتی ہے [1 تیمتھیس 4:1]۔ غلطی کی روح بدعت کو فروغ دیتی ہے، جبکہ سچائی کی روح سچائی کو برقرار رکھتی ہے [1 جان 4:6]۔
- حسد، [ ]: [ ]
- یونانی معنی: جس کا مطلب ہے بد [ ] نیتی پر مبنی حسد، [ ] دوسروں کو نقصان پہنچانا [ ] میتھیو 27:18]۔
- ارتداد سے تعلق: حسد ناراضگی کو جنم دیتا ہے، جو ارتداد کا باعث بنتا ہے [جیمز 3:16]۔ غلطی کی روح حسد کو ہوا دیتی ہے، جبکہ سچائی کی روح محبت کو فروغ دیتی ہے [1 کرنتھیوں 13:4]۔
- شرابی، [ ]: [ ] دیکھیں 1 کرنتھیوں 10:9]۔
- [ ]: [ ]
- یونانی معنی: جس کا مطلب ہے [ ] کراؤسنگ [ ] یا حد سے زیادہ تفریح، اکثر شرابی دعوتوں سے منسلک ہوتا ہے [ ] 1 پیٹر 4:3]۔
- ارتداد سے تعلق: ارتداد کی عکاسی ہوتی ہے، جس سے ارتداد ہوتا ہے [2 پیٹر 2:2]۔ غلطی کی روح زیادتی کو فروغ دیتی ہے، جبکہ سچائی کی روح پرہیزگاری کا مطالبہ کرتی ہے [1 پطرس 5:8]۔
- اس طرح کی چیزیں: پال کے پکڑے جانے والے جملہ میں اسی طرح کے گناہ شامل ہیں، مستقل، غیر توبہ کے رویے پر زور دیتے ہیں۔

### 3. سیکشن 8 سے گناہ اور گناہگار: 1 کرنتھیوں 5 اور میتھیو 16 [ ] 15 سے بصیرت

1 کرنتھیوں 5

متن: حقیقت [ ] میں یہ اطلاع دی گئی ہے کہ تم میں بدکاری ہے [ ] اور تم مغرور ہو! کیا تمہیں ماتم نہیں کرنا چاہیے؟ [ ] کسی ایسے شخص سے صحبت نہ کرنا جو بھائی کا نام لیتا ہے اگر وہ بدکاری یا لالچ کا مرتکب ہو، یا بت پرست، گالی دینے والا، شرابی، یا تم میں سے بدکردار شخص ہے [ ] 2:1، 11، 13، [ ] پولس گناہ کو [ ] خمیر [ ] سے تشبیہ دیتا ہے: تھوڑا [ ] سا خمیر پوری گائٹھ کو خمیر کر دیتا ہے [ ] 1 کرنتھیوں 5:6]۔ [ ]

تجزیہ:

جنسی بدکاری، [ ]: [ ] دیکھیں گلتیوں 21 [ ] 5:19]۔ 1 کرنتھیوں 5:1 میں، یہ خاص طور پر ایک آدمی کا اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ سوتے ہوئے، ایک شدید خلاف ورزی کا حوالہ دیتا ہے [ ] 18:8 [ ] [ ]۔

ارتداد سے تعلق: ایسا گناہ، اگر توبہ نہ کرے، کلیسیا کو خراب کر دیتا ہے، جس سے ارتداد کا باعث بنتا ہے [1 تیمتھیس 4:1]۔ غلطی کی روح بداخلاقی کو فروغ دیتی ہے، جبکہ سچائی کی روح توبہ کا مطالبہ کرتی ہے [1 کرنتھیوں 6:11]۔

لالچ، [ ]: [ ] دیکھیں 1 کرنتھیوں 10:9]۔

بت پرست، [ ]: [ ] دیکھیں مکاشفہ 21:8]۔

[ ]: [ ] دیکھیں 1 کرنتھیوں 10:9]۔

شرابی، [ ]: [ ] دیکھیں 1 کرنتھیوں 10:9]۔

دھوکہ دینے والا، 10:6-9۔ دیکھیں 1 کرتھیوں 10:6۔

خمیر، 12:15۔

یونانی معنی: 12:15، 12:15۔ خمیر کا مطلب ہے، گناہ کے وسیع اثر و رسوخ کی علامت، بدعنوانی پھیلانا۔

ارتداد سے تعلق: گمراہی کے جذبے سے کام نہ کیے جانے والا گناہ، پوری کمیونٹی کو ارتداد کی طرف لے جانے کا خطرہ ہے 1 کرتھیوں 5:6۔ سچائی کی روح پاکیزگی کا مطالبہ کرتی ہے 1 کرتھیوں 5:8۔

میتھیو 16:15

متن:

میتھیو 15:9-7: یہ لوگ اپنے ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کا دل مجھ سے دور ہے؛ یہ بیکار میری عبادت کرتے ہیں، لوگوں کے احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔

میتھیو 15:14-13: وہ بودا جو میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا ہے جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا۔ انہیں رہنے دو، وہ اندھے رہنا ہیں اور اگر اندھا اندھے کی رہنمائی کرتا ہے تو دونوں گڑھے میں گر جائیں گے۔

میتھیو 28:23-27: افسوس! فقیہو اور فریسیو، منافقو! تم سفید دھوئے ہوئے قبروں کی مانند ہو ظاہری طور پر تو خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، لیکن اندر مردہ لوگوں کی ہڈیوں اور تمام ناپاکیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔

تجزیہ:

منافقت، 12:15۔

یونانی معنی: 12:15، 12:15۔ اس کا مطلب ہے اداکار یا دکھاوا کرنے والا، ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو گناہ کو چھپاتے ہوئے راستبازی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ 26:4، عبرانی 12:15۔

ارتداد سے تعلق: منافقت خُدا سے دُور دل کی عکاسی کرتی ہے 15:8، ارتداد کے اُتے ایمان کے ساتھ موافقت کرتا ہے 8:13۔ غلطی کی روح دکھاوے کو فروغ دیتی ہے 1:4، جبکہ سچائی کی روح اخلاص کا تقاضا کرتی ہے 1 یوحنا 3:18۔

جھوٹے اساتذہ، 12:15۔

یونانی معنی: لفظی طور پر اندھے رہنا، ان لوگوں کا حوالہ دیتے ہیں جو خدا کی سچائی پر انسانی روایات کی تعلیم دیتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ 15:14۔

ارتداد سے تعلق: غلط اساتذہ، غلطی کے جذبے سے کارفرما، فریب کو فروغ دیتے ہیں، ارتداد کا باعث بنتے ہیں 2 پطرس 2:1، 1 تیمتھیس 4:1۔ سچائی کی روح رسولی تعلیم کو برقرار رکھتی ہے 1 یوحنا 4:6۔

## 4. ارتداد اور روحانی قوتوں سے تعلق

درج کردہ ہر گناہ خُدا کی سچائی کو مسترد کرنے کی عکاسی کرتا ہے، غلطی کی روح کے ساتھ موافقت کرتا ہے 12:15، جو دھوکہ دہی، بغاوت، اور دنیاوی خواہشات کو فروغ دیتا ہے، جس سے ارتداد کی طرف جاتا ہے 4:6، 2 تھیسالونیکیوں 2:3۔ سچائی کی روح 12:15، 16:13 ان کا مقابلہ کرتی ہے:

یسوع کے رب کے طور پر اعتراف کو قابل بنانا 12:3۔

سچائی کی طرف رہنمائی کرنا 1 جان 4:6۔

خدائی پھل پیدا کرنا 23:5۔

خُدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا 15:4۔

